

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن اپنا دوسرا سالانہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام 1 فروری کو لانچ کر رہا ہے

برامپٹن، آن (25 جنوری 2020) – سٹی آف برامپٹن کا مشہور بیک یارڈ گارڈن پروگرام 1 فروری کو دوسرے سال کے لیے واپس آ رہا ہے۔

یہ ماحول دوست قدم شرکاء کو مفت مٹی، بیج اور اپنے صحت میں باغیچہ بنانے کے لیے مددگار مشورے مہیا کر کے ہماری شہر کی فوڈ سیکیورٹی میں معاونت کرتا ہے۔ اس سال یہ پروگرام صرف نئے شرکاء کے لیے کھلا ہے، بشمول ان کے جنہیں 2020 میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا۔

بیک یارڈ گارڈن پروگرام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے فصلیں اور جڑی بوٹیاں اگائیں اور اپنی اگائی ہوئی فصلوں کو مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کریں۔

یہ پروگرام **مئی 19 کووڈ-19 سوشل ٹاسک فورس** کی فوڈ سیکورٹی پر توجہ کے عمل میں معاونت فراہم کرتا ہے، ایک قابل استحکام ماحول دوست شہر بننے کی سٹی کی ترجیح کو مضبوط کرتا ہے اور رہائشیوں کی ذہنی اور جسمانی بہبود کو فروغ دیتا ہے۔

رہائشی بروز پیر، 1 فروری کو صبح 10 بجے سے شروع کرتے ہوئے مفت بیج اور مٹی موصول کرنے کے لیے [www.brampton.ca/backyardgarden](http://www.brampton.ca/backyardgarden) پر رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اس سال کے بیک یارڈ گارڈن کی تصاویر، باغبانی کے مشورے، ٹیوریٹس اور وسائل بھی ویب پیج پر موجود ہوں گے۔ رہائشیوں کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ ہیش ٹیگ #GardensofBrampton کے ذریعے اپنا باغیچہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔

اس سال، پروگرام پر فخر طور پر سکاٹس کی جانب سے سپانسر شدہ ہے۔ سٹی تمام پروگرام کے تمام حمانتیوں کا شکر گزار ہے، بشمول ماتامے بومز، پیراڈائن ڈیولپمنٹس، فیلڈ گیٹ ڈیولپمنٹس، TACC ڈیولپمنٹس اور گریٹ کلف۔

### بیک یارڈ گارڈن کلب ای-نیوز لیٹر

اس سال نیا، ہمارے ماہانہ بیک یارڈ گارڈن ای-نیوز لیٹر میں شامل ہونے والی تمام شوقین افراد اور اراکین کو ایک ماہانہ ای-نیوز لیٹر موصول ہو گا، جس میں باغبانی کے متعلق معلومات، سوالات بھیجنے کے مواقع، باغبانی کے مشورے اور ماہرین اور کمیونٹی شراکت دار، جیسا کہ برامپٹن ہارٹی کلچر سوسائٹی، کی جانب سے معاونت، خصوصی پیشکشیں اور مزید چیزیں شامل ہوں گی۔ کلب میں رجسٹر ہونے کے لیے [www.brampton.ca/backyardgarden](http://www.brampton.ca/backyardgarden) ملاحظہ کریں۔

### پس منظر

2020 میں سٹی آف برامپٹن کے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا شروعاتی سال بہت کامیاب رہا، جس میں اپریل سے اکتوبر کے درمیان 10,000 پاؤنڈ سے زائد کی فصلیں مقامی فوڈ بینکس اور ضرورت مند رہائشیوں کے لیے کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کی گئیں؛ بشمول دی نائٹس ٹیبل، ریجنریشن، خالصہ ایڈ اور یونائیٹڈ سکھس۔ یہ کینیڈا میں اپنی نوعیت کا پہلا قدم تھا، جو کووڈ-19 کے رد عمل میں شروع کیا گیا۔

کمیونٹی گارڈن پروگرام **برامپٹن گرون گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان** کے اہداف کو فروغ دیتا ہے، جس نے شہری علاقوں میں کھیتی باڑی کو سٹی کے لیے ایک موقع قرار دیا۔

"گزشتہ سال بیک یارڈ گارڈن پروگرام برامپٹن میں بڑی کامیابی رہا ہے اور میں 1 فروری سے اس پروگرام کے دوبارہ آغاز کا اعلان کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ یہ پروگرام ہماری کمیونٹی کو ساتھ لاتا ہے، شرکاء کو فعال رکھتا ہے اور ضرورت مند رہائشیوں کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے۔ ہمیں اس قدم کو دوسرے سال کے لیے کونسلر وبلینز کی قیادت میں چلانے پر فخر ہے"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

سیکڑوں رہائشیوں کو گزشتہ سال بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے حصہ کے طور پر مفت بیج اور مٹی ملی، جس نے ضرورت مند رہائشیوں کے لیے 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کی پیداوار مہیا کی۔ اس سال، پروگرام نئے شرکاء کے لیے کھلا ہے - اس کا یہ مطلب ہے کہ مزید لوگوں کو اس زبردست قدم میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ باغبانی کریں، باہر سے لطف اندوز ہوں اور اس سال ماحول کو واپس دیں!"

- ٹوگ وبلینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ چیئر بیک یارڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن

"2020 میں بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے متعارف کیے جانے اور اسے حاصل ہونے والی زبردست حمایت سے برامپٹن کو مثبت اثر پڑا ہے۔ سٹی 2021 کے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے پر امید ہے۔ سائن اپ کرنے اور اپنے مفت بیج اور مٹی حاصل کرنے کے لیے [www.brampton.ca/backyardgarden](http://www.brampton.ca/backyardgarden) کو ضرور بک مارک کریں اور اہم ماحول دوست قدم کا حصہ بن جائیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)